

# معرفت الہی

<"xml encoding="UTF-8?>

## معرفت کا لغوی اور اصطلاحی معنی

لفظ معرفت "عرف" سے مشتق ہے اور لغت میں اس کا معنی ہے "کسی چیز کی ذات، آثار اور خصوصیات کے بارے میں علم حاصل کرنا" (۱) جبکہ اصطلاح میں کسی چیز کو اس کے غیر سے ممتاز کر دینے کو اس چیز کی معرفت کہا جاتا ہے۔

## فرق بین علم و معرفت:

علم و معرفت کے درمیان فرق یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی تصویر ذہن میں آجائے اور اسے حواس خمسہ کے ذریعہ درک کیا جائے تو یہ اس شی کا علم کھلاتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ انسانی تصور سے بالا تر ہے، حواس خمسہ بھی اس کے ادراک سے عاجز ہیں لہذا خداوند عالم کے بارے میں لفظ "علم" استعمال نہیں ہوتا بلکہ لفظ "معرفت" استعمال ہوتا ہے مثلا علمت اللہ نہیں کہا جائے گا بلکہ عرفُ اللہ کالفظ استعمال ہوگا۔ (۲)

## معرفت، انسانی جوہر کمال:

انسان کی حقيقی قدر و قیمت اور جوہر کمال ہے۔ وہ علم و معرفت کی جس بلندی پر فائز ہوگا اسی کے مطابق اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ چنانچہ جوہر شناس نگاہیں شکل و صورت، بلندی قدو قامت اور ظاہری جاہ و حشم کو نہیں دیکھتیں بلکہ انسان کے علم و بہنر کو دیکھتی ہیں اور اسی بہنر کے لحاظ سے اس کی قیمت لگاتی ہیں۔ زآنکہ ہر کس را بقدر دانش او قیمت است

احادیث میں علم و معرفت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "قیمة كل امرى ما يحسن" (۳) محجۃ البیضا میں بھی یہ جملہ نقل ہوا ہے: "قیمة كل امرى ما يعلم" (۴) بر شخص کی قیمت اس کی دانش ہے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ کلام اس بات کی نشان دہی کر رہا ہے کہ ہر انسان کی ارزش اس کے علم و معرفت کے مطابق ہے۔ البتہ دنیا میں رائق علوم کے انسانی تکامل میں کردار کے مطابق مختلف مراتب ہیں، جو علم انسانی تکامل میں جتنا موثر کردار ادا کریگا وہ علم اتنا ہی قیمتی ہوگا، مثلا علم طب کا اگرچہ انسانی زندگی میں بنیادی کردار ہے مگر چونکہ دنیا تک محدود ہے لہذا اس کی قیمت بھی دنیا تک محدود ہوگی، اسی تناسب سے معرفت الہی کی قدر و قیمت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔

۱: معرفت الہی کا انسانی تکامل میں کردار

۲: معلوم کی قدر و منزل

معرفت الہی سے بڑھ کر اور کسی بھی علم کا انسانی تکامل میں بنیادی کردار نہیں ہے۔ اور معلوم کی قدرومنزلت بھی ہے انتہا ہے لہذا اس علم کی قdroQیمت کا اندازہ لگانا انسانی تصورات سے بالاتر ہے۔

## معرفت الہی کی اہمیت

انسانی تکامل میں معرفت پروردگار کا بنیادی کردار ہے، اگر انسانی ذہن کسی معبد کے تصور سے خالی ہو تو نہ اطاعت کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی آئین کی پابندی کا۔ کیونکہ جب کوئی منزل سامنے نہ ہوگی تو منزل کی سمت بڑھنا ہے معنی ہوگا، اور جب کوئی ہدف پیش نظر نہ ہوگا تو اس کے لئے تگ ودو کرنے کا کیا مطلب ہے؟! البتہ جب انسان کی عقل و فطرت، اس کا رشتہ کسی مافوق فطرت طاقت سے جوڑ دیتی ہے اور اس کا ذوق پرستاری و جذبہ عبودیت اسے کسی معبد کے آگے جھکا دیتا ہے تو وہ من مانی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو قانون کے دائرہ میں محدود کر لیتا ہے، اسی قانون کا نام دین ہے۔ جس کا نقطہ آغاز خالق کی معرفت ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا: "اول الدین معرفته" (۵) دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ اسی سلسلہ میاپ نے ایک اور مقام پر فرمایا: "من عرف اللہ کملت معرفتُه" یا فرمایا "معرفة اللہ سبحانہ اعلیٰ المعارف": جس نے اللہ کو پہچانا اس کی معرفت کامل ہوئی۔ (۶) اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے برتر معرفت ہے۔ (۷) بے شک معرفت الہی کو باقی تمام علوم سے وہی نسبت حاصل ہے جو سر کو بدن سے۔ اگر معرفت خدا کو علوم سے جدا کر دیا جائے تو علم ایک ناقص وجود کی صورت میں سامنے آئے گا، جو قدرت تعقل و تفکر سے عاری ہوگا اور ایسا عالم، انسانی شکل میں ایک ایسے لاش خور کی مانند ہے جس کے منه میں مردار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان صنعتی ترقی کے دور میں معرفت الہی سے بے بہرہ ہونے کے سبب انسانی قدرؤں کو روندتے ہوئے، اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی و بربادی کا سازو سامان مہیا کر رہا ہے۔

## معرفت الہی کی حدود

خداوند متعال کی حقیقی معرفت (کنه ذات خداوند متعال)، انسانی عقل کی وسعت و طاقت سے بالاتر ہے بلکہ ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسیین بھی اس متحیر العقول وادی میں قدم نہیں رکھ سکے۔ منقول ہے: "انَّ اللَّهَ احْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ الْأَعْلَى يَطْلَبُونَهُ كَمَا تَطْلَبُونَهُ أَنْتُمْ" (۸) ذات پروردگار عقلوں سے اسی طرح پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جس طرح تم اس کی جستجو میں ہو اسی طرح ملاً اعلیٰ کے مکین بھی اس کی تلاش میں ہیں۔

کسی چیز کی حقیقت اور کنه ذات تک رسائی کے لئے اس پر احاطہ ضروری ہے چونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا احاطہ نہیں ہے بلکہ وہ "علیٰ كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ" ہے لہذا کوئی بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اعظم(ص) کا یہ فرمان اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے:

"ما عرفناك حق معرفتك" (۹): خدا یا تیری معرفت کا جیسا حق ہے تجھے، نہیں پہچان سکے۔

امام عرفان علی علیہ السلام نے فرمایا: "لَا يَدْرِكُهُ بُعْدُ الْهَمْمٍ وَ لَا يَنْالُهُ غُصَّةُ الْفَطْنِ..." (۱۰) نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گھرائیں اس کی تھے تک پہنچ سکتی ہیں۔

اس کی ذات کے کمالات کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ جب اولیائے الہی اور کامل و اکمل ہستیاں حقیقتِ ذات کی شناخت سے اظہار عاجزی کرتے دکھائے دیتے ہیں تو عام انسانوں کا مقام معرفت واضح ہو جاتا ہے۔

## معرفت الہی میں شرعی وظیفہ کے حدود

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کنه ذات تک رسائی ممکن نہیں دوسرا جانب شریعت مقدس اور عقل سليم نے خدا کی معرفت کو مورد تاکید قرار دیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ معرفت الہی کو مقصود زندگی اور عظیم ترین معرفت سے تعبیر کیا ہے اور اسے دین کی پہلی اصل اور شریعت کی بنیاد سے تعبیر کیا ہے لہذا اس کا راہ حل کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ واجبات الہی اور احکام شریعت، انسانی قدرت کے مطابق ہیں اور تکلیف ما لا یطاق (غیر مقدور عمل کو انجام دینے کا حکم) شریعت میں نہیں ہے۔ ورنہ ظلم و جبر لازم آتا ہے۔ لہذا معرفت الہی کی اتنی مقدار واجب ہے جتنا ایک انسان کے بس میں ہے (۱۱)

## معرفت الہی کی اقسام الف:

### مقام ذات کی معرفت :

مقام ذات کو ہویت مطلق، کنه (گھرائی، حقیقت) ذات اور مرتبہ غیب الغیوب سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ مرتبہ انبیاء مرسلین اور مقرّب ملائکہ کی طاقت سے بھی باہر ہے۔ نہ حکماء عقول یہاں پہنچ سکتے ہیں اور نہ عرفان کے قلبی شہود۔ لہذا یہ مرتبہ دائیہ تکلیف سے باہر ہے۔

### ب: صفات ذات کی معرفت:

اس مرتبہ کو کنه (گھرائی، حقیقت) صفات ذاتی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یہ مقام بھی مقام ذات ہی کے حکم میں ہے اس لئے کہ صفات ذات، عین ذات ہیں۔ یہ مرتبہ بھی احکام شریعت اور واجب الہی کے دائیہ سے خارج ہے۔

### ج: صفات فعلی کی معرفت:

اگرچہ صفت فعلی اسی ذات کا ظہور ہے لیکن چونکہ مقام ذات سے جدا ہے لہذا بربان عقلی اور شہود عرفانی کے ذریعہ ان کا ادراک ممکن ہے۔ البته ہر انسان اپنی طاقت اور ذہنی وسعت کے مطابق ان مراتب کو درک کرتا ہے۔ انسان آیات الہی میں جتنا تدبیر کرے گا، معرفت کے مراتب طے کرتا جائے گا۔ معرفت الہی کا واجب ہونا اسی قسم پر تطبیق ہوتا ہے اس مقام معرفت میں بھی، معرفت الہی کی اتنی مقدار واجب ہے جہاں تک انسانی ذہن

کی رسائی ممکن ہے۔ معرفت کی یہ قسم فقط اسماء حسنی اور صفات علیا (صفات فعلی) سے مخصوص ہے اور اسی مرحلہ میں انسان، کمال کا سفر طے کر سکتا ہے البتہ معرفت کی بلندیاں طے کرنے والے اس مرحلہ میں بھی جب اظہار معرفت کرتے ہیں تو انکساری اور عاجزی کو ہی اوج معرفت بیان کرتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے: ”ما عرفناک حق معرفتك“

آقا ظہیر علی مدرس زنوی نے اس حدیث کے مفہوم کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے: خدا یا تیری معرفت کا حق، معرفت سے عاجزی کا اعتراف ہے۔ مقام شکر میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیشہ تعلیم دی ہے۔ آپ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں: ”فكيف لى بتحصيل الشكر و شكري ايک يفتقر الى شكر فاشكر عبادک عاجز عن شكرك(۱۲)“ خدا یا تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ ادائے شکر کے لئے مجہ پر ایک اور شکر واجب ہوجاتا ہے، میرا پر شکر تیرے ایک اور شکر کا محتاج ہے خدا یا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ شاکر وہ ہے جو شکر ادا کرنے میں عاجزی کا اظہار کرے۔ رسول خدا، حمد و ثناء پروردگار میں اظہار عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيةت على نفسك(۱۳) خدا یا جس طرح تو نے اپنی ثنائی ہے میں اس طرح ثنا کرنے سے عاجز ہوں۔

## فصل ۲ : معرفت الہی کا ذریعہ

خدا شناس فطرت اگرچہ خدا کا وجود انسانی فطرت کی صدا ہے، مگر فطرت، اجمالی طور پر فقط ایک کامل و اکمل ذات کی نشاندہی کرتی ہے جو اس عالم پستی کی خالق اور مدبر ہے، لیکن فطرت مصدقہ کی نشاندہی کرنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ فطرت کو نور عقل سے منور کیا گیا ہے مگر اسکی ضیاء محدود ہے۔ لہذا جب بھی کوئی معرفت کی تلاش میں عقل کی روشنی میں فطرت کی انگلی تھام کر چلے گا تو تھوڑی دیر بعد راستہ مسدود دکھائی دے گا، اور منطقی شعوری بھی تھوڑی دور تک رائِنمائی کر کے تھک بار کر آواز دے گا: اے سیروسلوک کے مسافر! آگے کا سفر میرے بس میں نہیں ہے یہ حیران کن وادی ہے، جس میں نورِ وحی درکار ہے، کسی ایسے مرکز علم کو تلاش کر جو تجھے تیرے حقیقی مالک کا پتہ بتا سکے، اور تیرے رب کی پہچان کراسکے اور اس کی مرضی کے مطابق تیرے عمل وظیفہ سے بھی تجھے آگاہ کرسکے۔ فطرت آواز دے گی کہ اے انسان! کسی ایسے دروازے پر دستک دے جس کا رابطہ عالم ملک سے عالم ملکوت تک ہو، اس کا زاویہ نظر، عالم مادہ کی سرحدوں کو توڑ کر عالم موجودات تک جا پہنچا ہو، وہ ایک ایسے خالق و مدبر کا پتہ بتائے جو قرآنی ”محکمات“ کی تفسیر ہو، جسم و جسمانیت، نزول، احتیاج اور تشبیہ سے منزہ ہو، اس کی صفات عین ذات ہوں اور ”قدمائے ثمانیہ“ کی مشکل حل ہو سکے۔

## ائمہ معرفت کا ذریعہ وہ کونسا دروازہ ہے جو حقیقی معبد سے آشنا کرادے؟

وہ دروازہ، در اہلبیت ہے، اہلبیت شہر علم کا عظیم دروازہ اور ساقی علم لدنی ہیں، جو تشنہ حقیقت کو سیراب کرتے ہیں، جو وادی معرفت میں امیر کاروان ہیں، جو سیر و سلوک کے مسافروں کی رائِنمائی کرتے ہیں اور بدایت کے سب راستے دروازہ اہلبیت تک منتھی ہوتے ہیں۔ رسول اکرم اور آپ کا پاک خاندان بدایت کے روشن چراغ، عبد

کو معبود تک پہنچانے کا ذریعہ اور وہ مضبوط رسی ہیں جو انسان کو اپنے مالک سے ملا دیتی ہے۔ زیارت جامعہ کا یہ جملہ اسی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے: ”السلام علی آئمۃ الہدی و مصابیح الدجی و اعلام التقی و ذوی النہی و اولی الحجی و کھف الوری و ورثۃ الانبیاء و المثل الاعلی“ (۱۲)

جناب علی مرتضی سفر معرفت کے امیر کاروان ہیں، جنہوں نے رسول خدا کی زیر نگرانی علمی کمالات حاصل کئے۔ خطبہ قاصعہ میاپ اپنی تربیت کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”الله نے روح القدس کو رسول خدا کے ہمراہ کردا تھا جو انہیں پاک خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں پر لے کر چلتا تھا اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ آپ ہر روز اخلاق حسنہ کے علم بلند کرتے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے، میں وحی و رسالت کا نور دیکھتا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا...“ (۱۵)

امیر المؤمنین علیہ السلام وہ پہلے مفکر اسلام ہیں جنہوں نے خداوند عالم کی توحید اور اس کے صفات کو عقلی نقطہ نظر سے مورد بحث قرار دیا۔ آپ نے اس سلسلہ میں جو خطبات ارشاد فرمائے، وہ علم الہیات میں نقش اول بھی ہیں اور حرف آخر بھی۔ آپ کی بلند نظری اور معنی آفرینی کے سامنے حکما و متکلمین کی ذہنی رسائیاں ٹھیک کر رہ جاتی ہیں اور کہنے رس طبیعتوں کو عجر و نارسائی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

ابن ابی الحدید نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے: حکمت الہی اور معارف توحید پر عقلی استدلال کرنا اصل عرب کا فن نہ تھا بلکہ فقط حکماء یونان اور اہل معرفت بی ان مباحثت کو بیان کرتے تھے۔ قوم عرب میں سب سے پہلے جس نے ان علوم کو متعارف کرایا وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ (۱۶)

ابن ابی الحدید ایک اور مقام پر بزرگ صحابہ کی عجز و نارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: توحید، عدل اور الہی معارف فقط علی ابن ابی طالب کے ذریعہ پہنچانے گئے اور آپ کے علاوہ اکابرین صحابہ میں کسی سے کوئی ایسی بات نقل نہیں ہوئی کیونکہ ان کے اذیان ان مسائل کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ورنہ وہ ضرور اسے بیان کرتے۔ (۱۷)

## علم و عرفان آئمہ کا معیار فضیلت

آئمہ معصومین علیہم السلام کی ذات گرامی میں اگرچہ متعدد ایسے فضائل اور امتیازات پائے جاتے ہیں جو عام انسانوں میں نہیں پائے جاتے۔ مگر ان کی فضیلت کا حقیقی معیار ان کا علم و عرفان ہے۔ آئمہ اطہار کا دوسروں سے حقیقی فرق علم و معرفت کی بنیاد پر ہے۔ معصوم کا علم، عالم وحی سے نور علم کی تجلی ہے، عالم غیب سے معارف الہی کو لے کر لوگوں کی وسعت ظرفی کے مطابق ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ مقام امامت وہ مقام ہے جہاں ذہین و فطین افراد کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ امام علی نے فرمایا: ”ینحدر عنی السیل و لا یرقی الٰ الطیب“ (۱۸) میں وہ سر چشمہ علم ہوں جس سے معرفت کے دریا بہتے ہیں، مجھ تک عقل و فراست کا پرندہ پر نہیں مار سکتا۔

عمر وابن بحر، جو کہ جاحظ کے نام سے مشہور ہیں، نظام میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کلام علی سخت امتحان و آزمایش والا کلام ہے کیونکہ اگر کوئی اس کے حق کو وفا (ادا) کر دے تو غالی ہوجائے گا اور اگر کوتاپی کر دے تو جفا کار بن جائے گا جبکہ وفا اور جفا کے درمیان حد وسط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس تک ماہر اور النتہائی ذہین انسان کی رسائی بھی مشکل ہے (۱۹)

امام عارفان علی نے فرمایا: ”لا يقاس بآل محمد من هذه الامة“ (۲۰) اس امت کی کسی فرد کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔

آئمہ معصومین عرفان کی ان بلندیوں پر فائز ہیں جہاں عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہو، اسے اسی دروازہ پر جھکنا پڑھے گا۔ معرفت الہی کا فقط ایک ہی راستہ ہے اور وہ اہل بیت ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”الامام علم بین الله عزو جل و بین خلقہ فمن عرف كان مومنا و من انكره كان كافراً“ (۱۲) امام کی ذات گرامی، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان لہراتا پرچم ہے جس نے اس کو پہچانا وہ مومن بن گیا، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔

امام علی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں: ”و انما الائمة قوام الله“ (۲۲) بلا شبہ آئمہ، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں اور یہی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، جنت میں وہی جائے گا جسیے انکی معرفت ہوگی۔

## آئمہ کی معرفت (الہی) کے آثار

### ۱. علمی آثار :

آئمہ اطہار جب باب توحید (معارف الہیہ) میں لب گشائی کرتے ہیں تو نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب ہمارے سامنے آتی ہے۔ البته سید رضی رحمة اللہ علیہ نے اس بحر بیکران کے کچھ موتی چن کر ہمارے لئے پیش کئے، دیگر آئمہ کے کلام مبارک کی بھی یہی خصوصیت ہے اور ان کا معجز نما کلام بھی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ آئمہ علیہم السلام نے باب توحید میں جو کلمات اور استدلال بیان فرمائے ہیں وہ علم الہیات میں نقش اول بھی ہیں اور حرف آخر بھی۔ بلاشبہ جن لوگوں نے الہیات میں علم و دانش کے دریا بھائے ہیں ان کا سرچشمہ آئمہ ہی کے حکیمانہ ارشادات ہیں اور انہوں نے انہی کے خوان علم سے ریزہ خواری کی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے توحید اور اسماء و صفات میں ان دقیق مسائل کا ایسا تجزیہ اور تحلیل کی ہے کہ جس کی نظر فقط قرآن کریم میں ملتی ہے۔ اسی وجہ سے کلام علی، ”اخ القرآن“ قرار پایا اور ”فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق“ کے لقب سے ملقب ہے۔

کلام علی کلام علی و ما قاله المرتضى مرتضى زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ اگرچہ ایک معصوم کے عملی رشحتات ہیں مگر تشنگان علم و معرفت کے لئے خزینہ اسرار ہے۔

### ۲. عملی آثار:

میدان عمل میں آئمہ علیہم السلام نے ہمیشہ ایک معبد کی رضا کو مد نظر رکھا، اسی کی خاطر جینے، مرنے کو اپنی زندگی کا اصول بنایا، اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو بیچ اور پست سمجھا (۲۳)، دنیا کی آب و تاب کو پائوں کے نیچے روندتے چلے گئے، نہ مال وزر کو کبھی اہمیت دی اور نہ جاہ و جلال کو، ان کی زندگی کا واحد مقصد

ذات احادیث کی مرضی کا حصول ہے۔

دنیاکی رنگینیوں کو بکری کی چھینک سے بھی بدتر سمجھا (۲۴) تو کبھی سور کی انتڑیوں سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر بتایا جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہوں (۲۵)۔ ہاں یہ اس نبی کے جانشین ہیں جس نے فرمایا تھا : اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرا ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں توحید کی تبلیغ سے ہاتھ نہیں اٹھائوں گا۔ یہ اسی نبی کے فرزند ہیں اگر چاہتے تو مدینہ میں جاہ و جلال سے زندگی بسر کرسکتے تھے مگر توحید کے لئے تپتے صحراء میں خاک و خون میں غلطان ہونا قبول کیا مگر اپنے پروردگار کی رضا کے خلاف دنیا کی کسی آسایش کو قبول نہ کیا۔

علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ۵۲ سالہ سکوت (جبکہ آنکھ میں غم و اندوہ کا کانٹا اور گلے میں دکھ درد کی بُڈی پہنسی تھی) (۲۶) بھی اپنے معبد کی توحید کا علم بلند کرنے کے لئے تھا۔ حضرت زهراء سلام اللہ علیہا پر دروازہ گرنے سے لیکر کربلا تک، کربلا سے لیکر کوفہ و شام کے درباروں تک، بنی امیہ اور بنی عباس کے دل فگار مظالم سے لیکر زیر ہلائیں تک اہل بیت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عرفان الہی کا مظہر ہے۔

## آئمہ کی دعا و میں عرفان الہی

آئمہ علیہم السلام کی معرفت کی معراج ان سے نقل ہونے والی دعائوں میں بھی مجسم اور جلوہ گر ہے اگرچہ ظاہری طور پر یہ ایک دعا ہے، مگر اس دعا میں علم و عرفان کے وہ نایاب گوبر ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لئے کہ آئمہ علیہم السلام جب لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے یا ان کو خطاب کرتے تو ان کے فہم و شعور کے مطابق گفتگو کرتے مگر جب اپنے حقيقة معبد کے ساتھ محو گفتگو ہوتے تو درمیان میں کوئی قادر ذہن حائل نہ ہوتا تھا، مقام دعا میں کوئی واسطہ نہیں، وہاں کسی استدلال و برباد کی ضرورت نہیں، وہاں علت و معلوم کا رابطہ نہیں بلکہ عبد و معبد بے بلکہ عاشق و معشوق کی نسبت ہے وہاں دلیل اُٹی (معلوم سے علت تک پہنچنا) نہیں بلکہ دلیل لمی ہے، خدا کو خدا سے پہچانا جانا ہے، سیدالشہداء کے یہ جملے اسی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں :

”اللہ توددی فی الآثار یوجب بُعد المزار“

کیف یستدل علیک بما ہو فی وجودہ مفتقر الیک (۲۷)

” خدا یا تیرے آثار میں تیری جستجو مجھے تجھ سے دور کر دیتی ہے۔ خدا یا جو اپنی ذات میں تیرا محتاج ہے وہ تجھ پر دلیل کیسے بن سکتا ہے۔ کیا تجھ سے زیادہ کوئی ظاہر ہے جو تجھے دکھاسکے ، تو کب آنکھوں سے اوچھل ہوا کہ تیرا پتہ پوچھا جائے ، تو کب دور ہوا کہ تیرے آثار کے ذریعہ تجھ تک پہنچا جائے اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے اپنے اوپر نگیبان کے طور پر نہ دیکھ سکیں ۔“

مولانا علی مرتضیٰ علیہ السلام وہ بستی ہیں جنہوں نے کبھی ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کی (۲۸) حضرت امام صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی افقاہ ہوا تو وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: نماز میں ”ایاک نعبد و ایاک نستعين“ کا اتنا تکرار کیا کہ عالم مکاشفہ میں عرفان قلبی کے ذریعہ جلال الہی سے جب یہ آیت سنی تو قوت بدنی، مکاشفہ جلال کی تاب نہ لا سکی۔ (۲۹)

الف: وادی معرفت میں، عقل انسانی جتنا چاہے سفر طے کر لے لیکن آئمہ علیہم السلام اس فراز و بلندی پر فائز ہیں جو علم و معرفت کا سرچشمہ ہے وہاں فطین اور زیرک اذہان کے پرندے پر نہیں مارسکتے۔

ب: فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو شخص معرفت الہی کا طالب ہو، اسے اسی مکتب کی شاگردی اختیار کرنا ہوگی چونکہ معرفت الہی انہی میں منحصر ہے، فکانواہم السبیل الیک (۳۰) معرفت خدا کا ذریعہ فقط یہی ہستیاں ہیں۔ کے جانشین ہیں